



### سٹی آف برامپٹن نے 22 مئی سے آؤٹ ڈور تفریحی سہولت گاہوں کو محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کی تیاری کر لی ہے

برامپٹن، آن (20 مئی 2021) – حکومت اونٹیریو کے آج کے اعلان کے بعد، سٹی آف برامپٹن نے 22 مئی سے اپنی آؤٹ ڈور تفریحی سہولت گاہوں کو محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔

#### آؤٹ ڈور تفریحی سہولت گاہیں

اجازت دی جانے والی آؤٹ ڈور تفریحی سہولیات میں گالف کورسز اور ڈرائیونگ رینجز، سوسر اور دیگر کھیلوں کے میدان، بیس بال ڈائمنڈز اور بیٹنگ کیجز، ٹینس اور باسکٹ بال کورٹس، لان بولنگ اور بوسی اور BMX اور اسکیٹ پارکس شامل ہیں۔

جن کو اجازت نہیں ہو گی

فی الوقت آؤٹ ڈور فٹنیس کلاسز اور ٹیم سپورٹس (بشمول مشق) کو میدانوں یا کورٹس میں منعقد کرنے کی اجازت نہیں ہو گی۔ آؤٹ ڈور پولز یا سپلینشن پیڈز بھی بند رہیں گے۔

بکنگ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation)

#### سماجی اجتماعات

سماجی اجتماعات اور منتظم شدہ تقریبات کی گنجائش کو بڑھا کر پانچ لوگوں تک کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان سہولت گاہوں سے بیک وقت پانچ تک لوگ مستفید ہو سکیں گے، بشمول مختلف گھرانوں سے تعلق رکھنے والے افراد۔

#### صحت عامہ کے اقدامات کے بارے میں تازہ ترین

صوبے کی جانب سے نیا اعلان کردہ [روڈ میپ ٹوری اوین](#) کا منصوبہ تین مراحل پر مشتمل ہے، جس کے مطابق صوبے کو بحفاظت اور محتاط طریقے سے دوبارہ کھولا جائے گا اور صوبہ بھر میں ویکسینیشن کی شرح اور صحت عامہ اور صحت کی دیکھ بھال کے اہم اشاریوں میں بہتری کی بنیاد پر صحت عامہ کے اقدامات میں بتدریج نرمی کی جائے گی۔

صوبے کی جانب سے [صوبائی سطح پر ہنگامی حالت کا نفاذ](#) اور گھر پر ٹھہرنے کا حکم، دونوں اقدامات 2 جون، 2021 تک مؤثر باعمل رہیں گے۔ گھر پر رہنے کے حکم نامے کے مطابق ہر شخص کو گھر پر ہی ٹھہرنا پڑے گا ماسوائے انتہائی ضروری معاملات کے لیے مثلاً گروسری اسٹور یا فارمیسی پر جانا، نگہداشت صحت کی سروسز تک رسائی، ورزش کے لیے گھر سے باہر نکلنا یا دیگر کسی انتہائی ضروری کام کے لیے باہر جانے کی اجازت ہو گی۔

صوبے کی جانب سے نیوز ریلیز [یہاں](#) پڑھیں۔

#### سٹی کی سروسز اور سہولیات

سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں  
سٹی ہال اور کاروباری سہولت گاہیں بالمشافہ سروسز کے لیے صرف بذریعہ اپوائنٹمنٹ کھلی رہیں گی۔ بغیر اپوائنٹمنٹ جانے کی اجازت نہیں ہو گی۔ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے ملاحظہ کریں: [www.brampton.ca/skiptheline](http://www.brampton.ca/skiptheline)

سٹی کے تفریحی مراکز



سٹی آف برامپٹن کی تمام تفریحی سہولت گاہیں عوام کے لیے بدستور بند رہیں گی اور ان ڈور پروگرام بھی تاحکم ثانی بند رہیں گے۔

### ویکسین لگوانے کا عمل

ایسے تمام افراد جن کی عمر 12 سال یا اس سے زیادہ ہو اور وہ پیل، بشمول برامپٹن میں رہائش پذیر ہوں، یہاں پر کام کرتے ہوں یا اسکول جاتے ہوں، وہ اب مخصوص کلینکس میں کووڈ-19 ویکسین لگوانے کی اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں۔ ویکسین لگوانے کے لیے 12 تا 15 سال تک عمر کے افراد کو لازمی طور پر ریجن آف پیل کے بکنگ سسٹم کے ذریعے [آن لائن بکنگ](#) کرانی ہو گی۔ اگر کسی کو بکنگ میں مدد کی ضرورت ہو، تو وہ ریجن آف پیل کی کووڈ-19 ویکسینیشن لائن کو ہفتے کے 7 دن صبح 8 تا شام 8 بجے تک 905.791.5202 پر کال کر سکتے ہیں۔

کووڈ-19 کی ویکسین لگوانے کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے، براہ کرم صوبائی [ویکسین پورٹل](#) ملاحظہ کریں۔

### لنکس

- [سٹی آف برامپٹن کووڈ-19 پروگرامنگ اور سروس اپ ڈیٹس](#)
- [سٹی آف برامپٹن - کیا بند کر دیا گیا ہے اور کیا کھلا ہے](#)
- [کووڈ-19 کی علامات](#)
- [کووڈ-19 کی ویکسین](#)
- [برامپٹن میں ٹیسٹنگ کی سہولت](#)
- [خود کو انسولیٹ کیسے کریں](#)
- [کووڈ-19 کے دوران کاروباری اداروں اور کام کی جگہوں کو کیسے محفوظ رکھیں](#)
- [پیل میں کووڈ-19 کے کیسز](#)

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)